

Attempt questions

1 What is statement is true about the magnetic poles.

- (a) Unlike pole repel
- (b) Like pole attracts
- (c) Magnetic pole do not effect each other
- (d) A single magnetic pole does not exist.

2 Law of electromagnetic induction & electrolysis were presented by:

- | | | | |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| (a) Simon ohm | (b) George coulomb | (a) سائمن اولم | (b) جارج کولمب |
| (c) Newton | (d) Michal farady | (c) نیوٹن | (d) مائیکل فیراڈے |

3 The step up transformer:

- (a) increase the input current
- (b) increase the input voltage
- (c) Has more turns in the primary coil
- (d) Has less turns in the secondary coil

4 What is the direction of the magnetic field lines inside a bar magnet?

- (a) From north pole to south pole
- (b) From south pole to north pole.
- (c) From side to side
- (d) Three are no magnetic field lines.

5 The study of magnetic effect of current is called.

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| (a) Electricity | (b) electromagnetism | (a) الیکٹریسٹی | (b) الیکٹرومیگنٹزم |
| (c) Magnetism | (d) Electric capacity | (c) میگنٹزم | (d) الیکٹرک کپیسٹی |

6 In D.C motor coil can rotate in magnetic field by an angle of:

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (a) 30° | (b) 45° | (a) 30° | (b) 45° |
| (c) 90° | (d) 60° | (c) 90° | (d) 60° |

7 The presence of magnetic field can be detected by:

- (a) small mass
- (b) stationary positive charge
- (c) stationary negative charge
- (d) Magnetic compass

8 Which part of DC motor reverses the direction of current through coil every half cycle?

- | | | | |
|--------------|-----------------|------------|---------------|
| (a) Armature | (b) Commutator | (a) آر مچر | (b) کموٹر |
| (c) brushes | (d) split rings | (c) برشز | (d) سپلٹ رنگز |

1 میکنیک پوز کے متعلق کون سے بیان درست ہے؟

- (a) ایک جیسے پوز کشش کرتے ہیں
- (b) مخالف پوز دفع کرتے ہیں
- (c) میکنیک پوز ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں
- (d) اکیلا میکنیک پول اپنا و جو در قرائیں رکھ سکتا

2 الیکٹر میکنیک انڈکشن اور برق پاشیدگی کے قوانین پیش کئے:

- | | | | |
|----------------|-------------------|---|---|
| (a) سائمن اولم | (b) جارج کولمب | (a) ان پٹ کرنٹ کو برھاتا ہے | (b) لیچ کو برھاتا ہے |
| (c) نیوٹن | (d) مائیکل فیراڈے | (c) کی پرانگری کوائل میں زیادہ چکر ہوتے ہیں | (d) کی سینڈری کوائل میں چکر کم ہوتے ہیں |

3 سٹیپ اپ ٹرانسفارمر:

- (a) نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف
- (b) ساؤتھ پول سے نارتھ پول کی طرف
- (c) الیکٹریسٹی سائینڈ سے دوسری سائینڈ
- (d) میکنیک فیلڈ لاٹریبیس ہوئیں

4 ایک بار میگنیٹ کے اندر میکنیک فیلڈ کی سمت کیا ہوتی ہے؟

- (a) نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف
- (b) ساؤتھ پول سے نارتھ پول کی طرف
- (c) الیکٹریسٹی سائینڈ سے دوسری سائینڈ
- (d) میکنیک فیلڈ لاٹریبیس ہوئیں

5 کرنٹ کے مقنایی اثرات کا مطالعہ کہلاتا ہے:

- | | |
|----------------|--------------------|
| (a) الیکٹریسٹی | (b) الیکٹرمیگنٹزم |
| (c) میگنٹزم | (d) الیکٹرک کپیسٹی |

6 ڈی سی موڑز میں کوائل میکنیک فیلڈ میں زاویہ تک گوم ہوتی ہے۔

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) 30° | (b) 45° |
| (c) 90° | (d) 60° |

7 میکنیک فیلڈ کی موجودگی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (a) ساکن پوزیٹو چارج سے | (b) چھوٹے ماس سے |
| (c) میکنیک نیڈل سے | (d) ساکن نیکٹو چارج سے |

8 ڈی سی موڑ کا کون سا حصہ ہر آدھے سائیکل کے بعد کوائل میں بہنے والے کرنٹ کی سمت کو تبدیل کر دیتا ہے؟

- | | |
|------------|---------------|
| (a) آر مچر | (b) کموٹر |
| (c) برشز | (d) سپلٹ رنگز |